

یسوع کیوں مر گیا؟

کیونکہ ہم سب گنہگار ہیں!

مرقس 2: 17 "یسوع نے یہ سُن کر اُن سے کہا کہ تندرُستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں بلکہ بیماروں کو - میں راستبازوں کو نہیں بلکہ گنہگاروں کو بلانے آیا ہوں۔"

رومیوں 3: 10 "چنانچہ لکھا ہے کہ کوئی راستباز نہیں، ایک بھی نہیں۔"

متی 18: 11 "کیونکہ ابنِ آدم کھوئے ہوؤں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔"

2. کیونکہ گناہ کی قیمت موجود ہے!

متی 15: 18-20 "مگر جو باتیں مُنہ سے نکلتی ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں اور وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہیں۔ کیونکہ بُرے خیال - خونریزیوں - زناکاریاں - حرامکاریاں - چوریاں - جھوٹی گواہیاں - بد گوئیاں دل ہی سے نکلتی ہیں۔ یہی باتیں جو آدمی کو ناپاک کرتی ہیں مگر بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا آدمی کو ناپاک نہیں کرتا۔"

رومیوں 6: 23 الف "کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔۔۔"

مرقس 16: 1ب ، 6 "جب سبت کا دن گزر گیا تو مریم مگدلینی اور یعقوب کی ماں مریم اور سلومی نے خوشبو دار چیزیں مول لیں تاکہ اُس پر ملیں۔ اُس نے اُن سے کہا ایسے حیران نہ ہو - تم یسوع ناصری کو جو مصلوب ہوا تھا ڈھونڈتی ہو وہ جی اُٹھا ہے۔ وہ یہاں نہیں ہے۔ دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں انہوں نے اُسے رکھا تھا۔"



گناہ کی قیمت موجود ہے!

3. کیونکہ یسوع مر گیا اور اُس نے صلیب پر ہمارے گناہوں کی قیمت ادا کی!

متی 1: 21 "اُس کے بیٹا ہو گا اور اُس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو اُن کے گناہوں سے نجات دے گا۔"

رومیوں 5: 8 "لیکن خُدا اپنی محبت کی خُوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر مواتا۔"

یوحنا 3:16 "کیونکہ خُدا نے دُنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اُس نے اپنا اِکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اُس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔"
 متی 18:11 "کیونکہ ابنِ آدم کھوئے ہوؤں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔"



مسیح گنہگاروں کے واسطے موا!

4. نجات مفت تحفہ ہے ، یہ ہمارے اچھے کاموں کی وجہ سے نہیں ہے۔ اِس لئے آپ کو خُدا کے کلام کو جاننے اور صرف اکیلے یسوع مسیح پر ایمان اور بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے۔

افسیوں 2:8-9 "کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی کے وسیلہ سے نجات ملی ہے اور یہ تمہاری طرف سے نہیں - خُدا کی بخشش ہے۔"

ططس 3:5 "تو اُس نے ہم کو نجات دی مگر راستبازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے کے خود کیے بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غُسل اور رُوح القدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلہ سے۔"

اعمال 4:12 "اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں بلکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔"



5. ہمیں صرف مسیح پر ایمان اور بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے !

مرقس 9: 23 "جو اعتقاد رکھتا ہے اُس کے لئے سب کچھ ہو سکتا ہے۔"

مرقس 1: 15 "اور کہا کہ وقت پورا ہو گیا ہے اور خُدا کی بادشاہی نزدیک آگئی ہے۔ توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ۔"

مرقس 10: 15 "میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی خُدا کی بادشاہی کو بچے کی طرح قبول نہ کرے وہ اُس میں ہرگز داخل نہ ہو گا۔"

رومیوں 10: 9-10، 13 "کہ اگر تُو اپنی زبان سے یسوع کے خُداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خُدا نے اُسے مردوں میں سے چلایا تو تُو نجات پائے گا۔ کیونکہ راستبازی کے لئے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لئے اقرار مُنہ سے کیا جاتا ہے کیونکہ جو کوئی خُداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔"



اگر آپ یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کرنا چاہتے ہیں اور خُدا سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں تو یہاں لکھی گئی دُعا کے مطابق دُعا مانگیں۔ اس دُعا کو مانگنے کے بعد کوئی دوسری دُعا آپ کو بچا نہیں سکتی۔ یہ صرف یسوع مسیح پر بھروسہ کرنا ہے جو گناہوں کی معافی بخشتا ہے۔ یہ دُعا خُدا کے سامنے آپ کے ایمان کو بیان کرنے ایک طریقہ ہے اور اُس کی شکرگزاری کرنا ہے جس نے آپ کو آپ کے گناہوں سے معافی بخشی۔

"خُداوند،

میں جانتا ہوں کہ میں گنہگار ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ مجھے میرے گناہوں کی سزا ملے گی جس کا نتیجہ موت اور جہنم ہے۔ پھر بھی میں یسوع مسیح پر اپنے نجات دہندہ کے طور پر ایمان رکھتا ہوں کہ اُس کی موت اور مردوں میں سے جی اُٹھنے نے میرے گناہوں کی معافی مہیا کی۔ میں یسوع اور صرف یسوع پر اپنے نجات دہندہ کے طور پر ایمان رکھتا ہوں۔ اے خُداوند مجھے بچانے اور معاف کرنے کے لئے میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ آمین!"

Amazing Grace Publishing *100 Lakeview Court * Joshua TX 76058 * 817-426-1828 * E-Mail JamesAV@aol.com
Translated by Pastor Michael irfan, Email: pastormichaelirfan@gmail.com